



سوال

(41) رمضان المبارک میں شیطان زنجیروں میں جکڑھئیے جاتے ہیں۔ ل

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان زنجیروں میں جکڑھئیے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں بھی قتل و غارت اور دوسرے جرائم ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اس ماہ مقدس میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اگر شیطان قید میں ہیں تو پھر ان برائیوں پر کون اکساتا ہے، حدیث کی وضاحت فرمائیں۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آدمی صرف شیطان کی وجہ سے برائی نہیں کرتا۔ بلکہ نفس کی نجاست کی وجہ سے بھی گناہ کرتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ **إِنَّ النَّفْسَ لَلنَّارِۗةِۙ بَآئِنُۙةٌۙ** (انجبار اہل حدیث ج ۱، ص ۳۷۔ ۱۱ سوال ۱۳۹۰)

توضیح:

حدیث میں آیا ہے کہ شیطان رمضان المبارک میں قید کئے جاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے لیکن رہا یہ سوال کہ اس ماہ میں لوگ جرائم میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ترک جرائم کی ٹریننگ کا مہینہ ہے جس کی وجہ سے گیارہ ماہ مسلمان برائی سے رک جاتا ہے، اسی طرح شیطان بھی اپنے دوستوں کو گیارہ ماہ ہر برائی کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اور رمضان شریف میں وہ خود قید ہو جاتا ہے، اور اس کے چیلے چپے گیارہ ماہ کی ٹریننگ کی بنا پر رمضان المبارک میں بھی سابقہ عادت کے مطابق جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم

(الراقم علی محمد سعیدی جامعہ سعیدیہ خانیوال)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث



جلد 06 ص 110

محدث فتویٰ